

سوال

نمبر پر تلاش کریں:

جواب

م السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اگر خاوند کام نہ کرنا ہو اور بیوی ملازمت کر کے گھر کا خرچ چلاتی ہو اور یہ طے نہ ہو کہ یہ خرچ بیوی کی طرف سے صدقہ ہے تو کیا یہ سب خرچ خاوند کے ذمہ قرض شمار ہوگا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

م السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی بات طے نہ ہوئی ہو تو یہ خرچ بہرہ اور خیرات کے حکم میں ہوگا اور بیوی کو حق نہیں کہ وہ خاوند سے اس کا مطالبہ کرے اس لیے کہ اس نے یہ سب کچھ اپنے اختیار سے خرچ کیا ہے۔

لیکن اگر کوئی شرط ہو کہ یہ خرچ واپس کیا جائے گا تو پھر اور بات ہے اور اسے واپس کرنا ہوگا کیونکہ مسلمان اپنی شرائط پوری کرتے ہیں لہذا اس صورت میں بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے خاوند سے اس وقت سارے خرچ کا مطالبہ کرے جو اس نے بچوں اور گھر پر خرچ کیا ہے جب خاوند کے پاس مال آجائے او
ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ نکاح و طلاق

ص 499

محدث فتویٰ